

## شادی شدہ جوڑے کے الگ ہونے پر جائیداد کی تقسیم

اوٹاریو میں، جب ایک شادی شدہ جوڑا علیحدگی اختیار کرتا ہے، تو وہ جائیداد جو انہوں نے شادی کے دوران حاصل کی تھی، اور جب وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تب بھی ان کی ملکیت ہے، برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے عدالتی عمل سے گزرتے ہیں، تو آپ "مساوات" ("Equalization") نامی چیز کے لیے درخواست دے سکتی / سکتے ہیں۔ یہ وہ حساب ہے جو جائیداد کو تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

اوٹاریو میں، خاندانی قانون کامن لا / غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائیداد کی تقسیم کا احاطہ نہیں کرتا ہے۔ کامن لا/غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائیداد کی تقسیم بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی معابدے پر نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو ممکنہ طور پر قانونی مشورہ لینا پڑے گا۔

### مساوات (Equalization)

ہر پارٹر کو اپنی نیٹ فیملی پر اپرٹی (NFP) کی قیمت معلوم کرنی چاہیے۔ اس کا حساب علیحدگی کی تاریخ اور شادی کی تاریخ پر ہر پارٹر کی جائیداد (اثاثہ جات مائنس قرضوں) کی خالص قیمت کے درمیان فرق تلاش کر کے لگایا جاتا ہے۔ زیادہ این ایف پی (NFP) والا پارٹر دوسرے پارٹر کو اس کے این ایف پیز (NFPs) کے فرق کا نصف ادا کرے گا۔

### مثال:

آدیجے (Aadijay) اور موشیکا (Moshika) (اوٹاریو میں اور یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مساوات علیحدگی کی تاریخ: ("Equalization")) کی ادائیگی کون کرے گا اور کتنا۔

موشیکا۔ اثاثوں کی قیمت مائنس یا منفی قرض	آدیجے۔ اثاثوں کی قیمت مائنس یا منفی قرض
علیحدگی کی تاریخ: 55,000 ڈالر	علیحدگی کی تاریخ: 100,000 ڈالر
شادی کی تاریخ: 25,000 ڈالر	شادی کی تاریخ: 20,000 ڈالر
موشیکا (Moshika) کا این ایف پی (NFP): 30,000 ڈالر	آدیجے (Aadijay) کا این ایف پی (NFP): 80,000 ڈالر

آدیجے (Aadijay) کا این ایف پی (NFP) موشیکا (Moshika) سے 50,000 ڈالرزیادہ ہے۔ لہذا، آدیجے (Aadijay) کو موشیکا (Moshika) کو 25,000 ڈالر کی برابری (ایکونلائزشن) کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اب ان میں سے بر ایک کے پاس 55,000 ڈالر کی مالیت کے اثناء ہوں گے۔

جائیداد کی مثالیں جو این ایف پی (NFP) کے حساب کتاب میں شامل کی جا سکتی ہیں:

- رقم
- مکان
- گاڑی
- فریچر

ایسے اثنائوں کے لیے جورقم کی صورت میں نہیں بین جیسے کہ گھر یا کار، ان اشیاء کی قیمت این ایف پی (NFP) کے حساب میں شامل کی جاتی ہے۔

اگر آپ شادی سے پہلے ایک اثنائے کے مالک تھے، تو اثنائے کی قدر میں اضافہ ہونے والی رقم این ایف پی (NFP) کے حساب کتاب میں شامل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شادی کی تاریخ پر آپ کے پاس ایک کاروبار تھا جس کی مالیت 100 ڈالر تھی اور شادی کے دوران اس کی قیمت میں 40,000 ڈالر کا اضافہ ہوا، تو آپ کو اپنے این ایف پی (NFP) حساب میں 40,000 ڈالر کا اضافہ کرنا چاہیے نہ کہ کاروبار کی پوری قیمت۔

#### ازدواجی گھر (میٹریمونیل بوم) یا خاندانی گھر (فیملی بوم)

خاندانی گھر (فیملی بوم) یا ازدواجی گھر (میٹریمونیل بوم) وہ ہے جہاں جوڑے شادی کے دوران علیحدگی کی تاریخ تک رہتے تھے۔ ازدواجی یا خاندانی گھر کے لیے برابری کی رقم کا حساب لگاتے وقت ایک مختلف اصول ہے۔ اس صورت میں، خاندانی گھر کی پوری قیمت بغیر اضافی قیمت کی یکسان طور پر تقسیم ہونی چاہیے۔ اسے یکسان طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے خواہ ایک شخص نے شادی سے پہلے گھر اپنے پیسے سے خریدا۔

#### مثال :

آدیجے نے ایک گھر خریدا اور پھر موشیکا سے شادی کی۔ بہ جوڑا علیحدگی کی تاریخ تک گھر میں بی رہا۔ گھر کی کل قیمت 1 ملین ڈالر ہے۔ وہ کسی اور اثنائے کے مالک نہیں بین۔ آدیجے کو اب موشیکا کو 500,000 ڈالر کی برابری ادائیگی کرنی ہوگی۔

## کیا جائیداد ہمیشہ برابر تقسیم ہوتی ہے؟

اگر دونوں فریق متفق ہیں تو جائیداد کو مساوی طور پر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تابم، یہ ہر شریک حیات کا حق ہے کہ وہ علیحدہ ہونے پر جائیداد کا مساوی حصہ حاصل کریں۔

## خارج شدہ جائیداد (وہ جائیداد جو بر شخص کے این ایف پی (NFP) کے حساب سے خارج ہے)

کچھ جائیداد کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مثالوں میں شامل ہیں :

- اگر آپ کو کوئی تحفہ دیا گیا (مثال کے طور پر زیورات)
- اگر آپ کو گاڑی کے حادثے کے بعد اپنی انجری یا چوٹوں کے لیے رقم ملی ہے
- کوئی بھی شے جس پر آپ اور آپ کے ساتھی نے اتفاق کیا ہو جسے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ نکاح نامہ میں شادی سے پہلے اس پر اتفاق ہونا ضروری ہے۔

## زیورات کیسے تقسیم ہوتے ہیں؟

اگر آپ نے زیورات بطور تحفہ وصول کیے ہیں تو اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو زیورات کا جو تحفہ دیا گیا تھا، اسے رکھنے کا آپ کو حق ہے۔ تابم، اگر زیورات کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو قیمت میں اضافہ کو تقسیم کیا جائے گا۔

### مثال

موشیکا کو ایک بار تحفے کے طور پر ملتا ہے جس کی قیمت 10,000 ڈالر ہے۔ جب وہ الگ ہوئی تو بار کی قیمت بڑھ گئی اور اب اس کی قیمت 16,000 ڈالر ہے۔ چونکہ ہار کی قیمت میں 6,000 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے موشیکا کو آدیجے کو 3000 ڈالر دینا چاہیے تاکہ وہ قیمت میں اضافے کا حصہ بنیں۔

### مہر

اسلامی شادی میں مہر ایک تحفہ ہے جو ان کی شادی کے موقعے پر دولہ کی طرف سے دلہن کو دیا جاتا ہے۔ جب شادی ختم ہو جائے گی، مہر کی قیمت اس شخص کے اثنوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گی جس نے مہر وصول کیا تھا۔ اس میں صرف استثناء ہے اگر فریقین شادی سے پہلے اس بات پر راضی ہو جانیں کہ مہر کو اثنوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ شادی کے معابدے میں اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ عدالت مہر کے سمجھوتوں کو معابدہ سمجھے گی۔ اگر یہ ادا نہیں کیا گیا ہے، تو دولہ کو اسے ادا کرنا پوچکا۔